

Digital Urdu Ghazal Reader v 1.0a (9/6/06)

Title: HASTĪ APNĪ ḤABĀB KĪ SĪ HAI

Author: Mīr

Urdu Text

(1)

ہستی اپنی جبکی سی ہے

یہ نمائش سراب کی سی ہے

(2)

مازکی اس کے لب کی کیا کھنے

پنکھڑی اک گلاب کی سی ہے

(3)

چشمِ دل کھول اس بھی عالم پر

یاں کی اوقات خواب کی سی ہے

(4)

بار بار اس کے درپہ جاتا ہوں

حالت اب اضطراب کی سی ہے

(5)

نقٹہ، غال سے ترا ابو

بیت اک انتخاب کی سی ہے

(6)

میں جو بولا کہا کہ یہ آواز

اسی غانہ خراب کی سی ہے

(7)

آتشِ غم میں دل بھنا شاید

دیر سے بوکلاب کی سی ہے

(8)

دیکھیے ابر کی طرح اب کے

میری چشم پر آب کی سی ہے

(9)

میراں نیم بازاں گھوول میں

ساری مستی شراب کی سی ہے

Text in Transliteration

(1)

hastī apnī ḥabāb kī sī hai
yih numā'ish sarāb kī sī hai

(2)

nāzukī us ke lab kī kyā kahi'e

pañkhṛī ik gulāb kī sī hai

(3)

chashm-e dil khol us bhī 'ālam par

yāñ kī auqāt khvāb kī sī hai

(4)

bār bār us ke dar pah jātā hūñ

hālat ab iztirāb kī sī hai

(5)

nuqtah-e khāl se tirā abrū

bait ik intikhāb kī sī hai

(6)

maiñ jo bolā kahā kih yih āvāz

usī khānah kharāb kī sī hai

(7)

ātish-e gham meñ dil bhunā shāyad

der se bū kabāb kī sī hai

(8)

dekhīye abr kī taraḥ ab ke

merī chashm-e pur āb kī sī hai

(9)

mīr un nīm bāz āñkhoñ meñ

sārī mastī sharāb kī sī hai

Vocabulary

(1)

حَبَّاب /habāb/ m. bubble

نُمَائِش /numā'ish/ f. spectacle, exhibition

سَرَابٌ /sarāb/ m. mirage

(2)

نَازُكٍ /nāzukī/ f. delicacy

لَبٌ /lab/ m. lip

پَنْخِرٍ /pañkhṛī/ f. petal

(3)

چَمْ /chashm/ f. eye

وَقَاتٍ /auqāt/ f. Arabic plural of vaqt (time)

خَوابٌ /khwāb/ m. sleep, dream, vision

(4)

پٰ /pah/ ppn. = par (metrical)

حَالَةٌ /hālat/ f. situation, condition

اضْطَرَابٌ /izṭirāb/ m. restlessness, agitation

(5)

نُقطَةٌ /nuqtah/ m. point, dot, spot

غَالٌ /khāl/ m. beauty spot, small dark mole

تِرَاءٌ /tirā/ (for meter) = terā

أَبْرُو /abrū/ f. eyebrow

بَيْتٌ /bait/ m. a shē'r, distych

إِنتِخَابٌ /intikħāb/ m. selection; choice; excerpt

(6)

آوازٌ /āvāz/ f. voice

خَارَابٌ /khānah kharāb / m. vagabond, wretch ('house-ruiner')

(7)

بُحْنَّا /bhunnā/ v.i. to fry

بُعْ /bū/ f. smell

(8)

أَبْرَحْ /abr/ m. cloud

طَرَاحْ /tarah/ f. style, manner, behavior

كَبَّا /ab ke/ this time, now

بُرْ /pur/ adj. full of

(9)

نِيمْ /nīm/ adj. half

بَازْ /bāz/ adj. open

مَسْتِي /mastī/ f. intoxication